

سندھ آرڈیننس نمبر VII مجریہ 2001  
SINDH ORDINANCE NO.VII OF 2001

سندھ سول ملازمین (مقرریوں کے متعلق موزنیت کی تشخیص)  
آرڈیننس، 2001

THE SINDH CIVIL SERVANTS (ASSESSMENT OF  
SUITABILITY OF APPOINTMENT) ORDINANCE,  
2001

فہرست (CONTENTS)

- تمہید (Preamble)  
دفعات (Sections)  
1. مختصر عنوان اور شروعات  
Short title and commencement  
2. تعریف  
Definitions  
3. کمیشن کو رجوع ریفرنس  
Reference to commission  
4. ملازمت سے برطرفی  
Termination of service  
5. سینیارٹی  
Seniority  
6. دائرہ اختیار پر پابندی اور مقدمات سے منع  
Bar of Jurisdiction and abatement of suits

سندھ آرڈیننس نمبر VII مجریہ 2001

SINDH ORDINANCE NO.VII

OF 2001

سندھ سول ملازمین (مقرریوں کے متعلق موزنیت  
کی تشخیص) آرڈیننس، 2001

THE SINDH CIVIL SERVANTS  
(ASSESSMENT OF SUITABILITY

## OF APPOINTMENT) ORDINANCE, 2001

[20 جنوری 2001]

تمہید (Preamble)

آرڈیننس جس کے ذریعے کمیشن کو رجوع کرنے کے بغیر مخصوص عہدوں پر مقرر کئے گئے افراد کی مقرر کی موزونیت کی تشخیص کرنے اور تبادلے کے ذریعے مقرر کئے گئے افراد کی مقرر کی موزونیت کی تشخیص کرنے اور تبادلے کے ذریعے مقرر کئے گئے افراد، جو دوسری صورت میں قواعد میں تبادلے کے لئے اہل نہیں تھے ان کی مقرر کی تشخیص کرنے کی گنجائش نکالی جائے گی۔

جیسا کہ کمیشن سے رابطہ کرنے کے سوا مخصوص عہدوں پر مقرر کئے گئے افراد کی مقرر کی موزونیت کی تشخیص اور تبادلے کے ذریعے مقرر کئے گئے افراد، جو دوسری صورت میں قواعد عوامی مفاد میں قواعد میں تبادلے کے لئے اہل نہیں تھے ان کی مقرر کی تشخیص کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جس کو اس طرح سے عمل میں لایا جائے گا؛ اور جیسا کہ سندھ کا گورنر مطمئن ہے کہ موجود صورتحال میں فوری قدم اٹھانا ضروری ہے؛

مختصر عنوان اور  
شروعات  
Short title and  
commencement  
تعریف  
Definitions

لہذا اب اس لئے مندرجہ بالا اعلان اور پروویزنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے ساتھ پڑھیں 1999 کے پروویزنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے پروویزنل کانسٹیٹیوشن (ترمیم) آرڈر نمبر 9 اور اس سلسلے میں ملے ہوئے تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے سندھ کا گورنر بخوشی مندرجہ ذیل آرڈیننس بنا کر نافذ کرنا فرماتا ہے:

1. (1) اس آرڈیننس کو سندھ سرکاری ملازمین (مقرر کی متعلق موزونیت کی تشخیص)

آرڈیننس، 2001 کہا جائے گا۔

(2) یہ فی الفور نافذ لاگو ہوگا۔

2. اس آرڈیننس میں جب تک کچھ مضمون اور مفہوم کے متضاد نہ ہو، تب تک:

کمیشن کو رجوع  
ریفرنس  
Reference to  
commission

ملازمت سے برطرفی  
Termination of  
service

سینیاریٹی  
Seniority

دائرہ اختیار پر پابندی  
اور مقدمات سے منع  
Bar of Jurisdiction  
and abatement of  
suits

(a) ”کمیشن“ سے مراد سندھ پبلک سروس؛  
(b) ”قواعد“ سے مراد سندھ صوبے میں لاگو کے  
لئے مغربی پاکستان سول سروس (ایگزیکٹیو برانچ)  
رولز 1964؛

(c) ”ملازمت“ سے مراد ملازمت جیسا کہ قواعد میں  
بیان کیا گیا ہو؛

(d) ”مخصوص آسامی“ سے مراد :

(i) بی پی ایس 16 یا اس سے زیادہ کوئی آسامی جیسا  
کہ سندھ پبلک سروس کمیشن فنکشنز رولز کے رول 5  
میں بیان کیا گیا ہو اور کمیشن سے رجوع کرنے کے  
سواء پر کی گئی ہو اور ؛ یا

(ii) ملازمت میں وہ آسامی جو تبادلے کے ذریعے پر  
کئی گئی ہے لیکن (c)(5) رولز کے مطابق اس پر  
مقرر کئے گئے افراد ان آسامیوں پر کام نہیں کر پائے۔  
3. کوئی شخص جو 1985 سے 1997 تک مخصوص  
عہدے پر اور کسی بھی حیثیت پر مقرر کیا گیا ہے اور  
اس آرڈیننس کے لاگو ہونے پر، جب تک کچھ قانون  
قواعد یا کسی ڈگری حکم یا عدالتی فیصلے کے متضاد  
نہیں ہے اس کو کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑے گا تا  
کہ مخصوص عہدے پر مقرر کے لئے موزنیت کے  
متعلق تحریر میں امتحان دے یا انٹرویو دے، متعلقہ  
فرد ہدایات پر عمل کرے گا۔

4. جہاں کوئی متعلقہ فرد دفعہ 3 کے تحت جاری کی  
گئی ہدایات پر عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس  
فرد کی ملازمت فوری طور پر جس وقت سے وہ  
ہدایات پر عمل نہیں کرتا کمیشن کی طرف سے نتائج  
کا اعلان کرنے والی تاریخ سے ختم کی جائے گی یا  
جیسا معاملہ ہو۔

5. جہاں متعلقہ فرد مخصوص عہدے پر کمیشن کی  
طرف سے موزوں قرار دیا جائے تو وہ ملازمت جاری  
رکھے گا۔ اور اس آرڈیننس کے لاگو ہونے سے پہلے  
فوری طور پر اسے تمام سینیاریٹی سونپی جائے گی۔

6. کسی بھی عدالت کو اس آرڈیننس کے تحت جاری

کی گئی ہدایات یا کئے گئے کسی کام یا کچھ کرنے کے ارادے پر کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ سنانے یا اس سے متعلقہ کوئی حکم جاری کرنے کا دائرہ اختیار نہیں ہوگا اور اس آرڈیننس کے لاگو ہونے پر اس سلسلے میں زیر التوی مقدمات، اپیلیں اور درخواستیں خارج ہو جائیں گی۔

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے بے جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔